

دروود شریف کی جگہ (SAW) لکھنے کا شرعی حکم الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ نبی کریم ﷺ کے نام مبارک پر انگلش میں (SAW) لکھ دیتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ بعض اردو کتابوں میں بھی درود شریف کی جگہ پر ص یا صلعم لکھا ہوتا ہے ، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔

سائل فہیم بولٹن انگلینڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي الثُّورَ وَالصَّوَابَ

نبی کریم ﷺ کے نام مبارک کے بعد درود شریف کی طرف اشارہ کے لیے انگلش میں (SAW) یا اردو میں ص یا صلعم لکھنا ناجائز اور سخت شنیع و ممنوع اور سخت محرومی کا باعث ہے لہذا جب بھی نام اقدس پر درود لکھا جائے تو پورا درود شریف ﷺ لکھا جائے۔ اور اسی طرح اگر انگلش میں کسی جگہ Peace be upon him بھی لکھنا ہے پورا لکھا جائے اس کی جگہ (PBUH) پرگز نہ لکھا جائے۔

جیسا کہ علامہ طحطاوی حاشیہ ڈرمختار میں فرماتے ہیں ویکرہ الرمز بالصلوٰۃ والترضی بالکتابۃ بل یکتب ذلک کلمہ بکمالہ وفی بعض المواضع من التتار خانیۃ من کتب علیہ السلام بالہمزۃ والمیم یکفر لانہ تخفیف و تخفیف الانبیاء کفر بلاشک ولعلہ ان صح النقل فهو مقید بقصد والافالظاہر انہ لیس بکفر وکون لازم الکفر کفر ابعث تسلیم کونہ مذہباً مختاراً محلہ اذاکان اللزوم بئیناً نعم الاحتیاط فی الاحتزار عن الایہام و الشبہۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ ص وغیرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رض لکھنا مکروہ ہے بلکہ اسے کامل طور پر لکھا پڑھا جائے تاتار خانہ میں بعض جگہ پر ہے جس نے درود و سلام ہمزہ ء اور میم م کے ساتھ لکھا اس نے کفر کیا کیونکہ یہ عمل تخفیف ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں یہ عمل بلاشبہ کفر ہے۔ اگر یہ قول صحت کے ساتھ منقول ہو تو یہ مقید ہوگا اس بات کے ساتھ کہ ایسا کرنے والا قصداً ایسا کرے ، ورنہ ظاہر یہ ہے کہ وہ کافر نہیں باقی لزوم کفر سے کفر اس وقت ثابت ہوگا جب اسے مذہب مختار تسلیم کیا جائے اور اس کا محل وہ ہوتا ہے جہاں لزوم بیان شدہ اور ظاہر ہو البتہ احتیاط اس میں ہے کہ ایہام اور شبہ سے احتزار کیا جائے۔

حاشیہ الطحطاوی علی الدرالمختار مقدمۃ الكتاب مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱ ۶

اور فتاویٰ رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں حرف ص لکھنا جائز نہیں نہ لوگوں کے نام پر نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم کریم پر، لوگوں کے نام پر تو یوں نہیں کہ وہ اشارہ و درود کا ہے اور غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں اور نام اقدس پر یوں نہیں کہ وہاں پورے درود شریف کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھے فقط ص یا صلعم جو لوگ لکھتے ہیں سخت شنیع و ممنوع ہے یہاں تک کہ تاتار خانہ میں اس کو تخفیف شان اقدس ٹھہرایا والعیاذ باللہ تعالیٰ

فتاویٰ رضویہ ج 23 ص 387

اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پہلا شخص جس نے ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، درود پورا لکھنا لازم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

فتاویٰ رضویہ ج 22 ص 692

اور بہار شریعت میں ہے بعض لوگ براہِ اختصار صلعم یا لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔

بہار شریعت ج 1 ص 77

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date:15-9-2018

QASIM

The Islamic ruling of writing SAW instead of Durūd Sharīf

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Some people end up writing SAW in English after mentioning the blessed name of the Noble Prophet ﷺ. It is also commonplace that ص or صلعم is written in place of Durūd Sharīf in Urdu books. What is the Islamic ruling regarding this?

Questioner: Faheem from Bolton, England

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بعون الملِك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

To write SAW, ص or صلعم after the blessed name of the Noble Prophet ﷺ to indicate towards Durūd Sharīf is impermissible, totally unacceptable, to be refrained from and a cause of deprivation, thus, whenever Durūd is written alongside the sacred name of the Noble Prophet ﷺ, it should thereby be written in full. Likewise, if one needs to write "peace be upon him", it should be written in full: PBUH should not be written in its place.

Just as 'Allāmah Tahtāwī states in the marginal note to Durr Mukhtār,

ويكره الرمز بالصلوة والترضى بالكتابة بل يكتب ذلك كله بكامله وفي بعض
المواضع من التتار خانية من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر لانه تخفيف و
تخفيف الانبياء كفر بلاشك ولعله ان صح النقل فهو مقيد بقصد والافالظاهر انه ليس
بكفر وكون لازم الكفر كفر ابعد تسليم كونه مذهباً مختاراً محله اذا كان اللزوم بيئياً نعم
"الاحتياط في الاحتزار عن الايهام و الشبهة

"To write ص, etc in place of ﷺ, and رض in place of رضي الله تعالى عنه is Makrūh. Rather, it should be written in full. It is mentioned in a few places in Tātār-Khāniyyah that whoever abbreviates Durūd & Salām as ء or م has committed disbelief, because this action is a form of belittling, and in the court of Noble Prophets, upon whom all be countless & endless blessings & salutations, such type of action is without doubt disbelief.

If this stance was to be mentioned in full, then it would be so with the following condition that if someone had done so intentionally. Otherwise, it is clear that one does not become a non-Muslim straight away [i.e. not for those who abbreviate in

the case of not knowing or due to laziness]. As for disbelief being established due to kufr luzūmī, this would be when a person accepts & acknowledges the chosen stance, and this is when the specific case of kufr has been mentioned to said person involved in said action and is apparent. Nevertheless, caution is in one avoiding any doubt or unclarity [by not using abbreviations in the first place].”

[Hāshiyah al-Tahtāwī ‘alā al-Durr al-Mukhtār, vol 1, pg 6]

Furthermore, Sayyidī A’lāhadrat, the Imām of the Ahl al-Sunnah, Imām Ahmad Ridā Khān, upon whom be infinite mercies, states in Fatāwā Ridawīyyah that it is not permissible to write the letter ص after anyone’s name, nor after the blessed name of the Noble Prophet ﷺ. It is not [i.e. not permissible] for the names of everybody else because this abbreviation is an indication towards Durūd, and to initially mention Durūd for anyone other than the Noble Prophets & Angels, upon whom be blessings & salutations, is not permissible. Likewise, it is not [permissible] for the sacred name [i.e. of the Holy Prophet ﷺ] as the command of the ruling is to write Durūd Sharīf in full; one is to write صلى الله تعالى عليه وسلم [i.e. ﷺ]¹. To merely write ص, or صلّم or صلعم as some please do is unequivocally unacceptable & absolutely to be refrained from, to the extent that this has been regarded as belittling the status of the most Noble of beings ﷺ.

[Fatāwā Ridawīyyah, vol 23, pg 387]

A’lāhadrat states in another place mentions that Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūtī has stated that the one who initiated such act of abbreviating [i.e. of Durūd] had his hand cut off; writing it in full is a must - ﷺ.

[Fatāwā Ridawīyyah, vol 22, pg 692]

On a final note, it is stated in Bahār-e-Sharī’at that some people write abbreviations such as S.A.W. etc. instead of writing the complete Durūd; it is impermissible and unlawful to do so.

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 1, pg 77]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali

¹ or the English equivalent i.e. peace be upon him, or whichever language is concerned for that matter.